

## ARABIC VERB CONJUGATOR

بَعَثَ  
يَبْعَثُ  
بَعَثًا

Send

VERBAL NOUN (MASDAR)

بَعَثًا

بھیجنا / اٹھانا

Root: ب ع ث

PAST	بَعَثَ اس نے بھیجا	PRESENT	يَبْعَثُ وہ بھیجتا ہے / بھیجے گا	MASDAR	بَعَثًا بھیجنا / اٹھانا	ISM FA'IL	بَاعِثٌ بھیجنے والا / اٹھانے والا	ISM MAFOOL	مَبْعُوثٌ بھیجا گیا / اٹھایا گیا
------	-----------------------	---------	-------------------------------------	--------	----------------------------	-----------	--------------------------------------	------------	-------------------------------------

## PAST TENSE

الماضي

الضمير	الفعل	ضمير	ترجمہ
هُوَ	بَعَثَ	وہ (ایک مرد)	اس ایک مرد نے بھیجا
هُمَا	بَعَثَا	وہ (دو مرد)	ان دو مردوں نے بھیجا
هُمْ	بَعَثُوا	وہ (سب مرد)	ان سب مردوں نے بھیجا
هِيَ	بَعَثَتْ	وہ (ایک عورت)	اس ایک عورت نے بھیجا
هُمَا	بَعَثَتَا	وہ (دو عورتیں)	ان دو عورتوں نے بھیجا
هُنَّ	بَعَثْنَ	وہ (سب عورتیں)	ان سب عورتوں نے بھیجا
أَنْتَ	بَعَثْتَ	تم (ایک مرد)	تم ایک مرد نے بھیجا
أَنْتُمَا	بَعَثْتُمَا	تم (دو مرد/ عورتیں)	تم دونوں نے بھیجا
أَنْتُمْ	بَعَثْتُمْ	تم (سب مرد)	تم سب مردوں نے بھیجا
أَنْتِ	بَعَثْتِ	تم (ایک عورت)	تم ایک عورت نے بھیجا
أَنْتُمَا	بَعَثْتُمَا	تم (دو عورتیں)	تم دونوں عورتوں نے بھیجا
أَنْتُنَّ	بَعَثْتُنَّ	تم (سب عورتیں)	تم سب عورتوں نے بھیجا
أَنَا	بَعَثْتُ	میں	میں نے بھیجا
نَحْنُ	بَعَثْنَا	ہم	ہم نے بھیجا

## PRESENT / FUTURE

المضارع

الضمير	الفعل	ضمير	ترجمہ
هُوَ	يَبْعَثُ	وہ (ایک مرد)	وہ ایک مرد بھیجتا ہے / بھیجے گا
هُمَا	يَبْعَثَانِ	وہ (دو مرد)	وہ دو مرد بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
هُمْ	يَبْعَثُونَ	وہ (سب مرد)	وہ سب مرد بھیجتے ہیں / بھیجیں گے

ترجمہ	ضمیر	الفعل	الضمیر
وہ ایک عورت بھیجتی ہے / بھیجے گی	وہ (ایک عورت)	تَبَعَثُ	هِيَ
وہ دو عورتیں بھیجتی ہیں / بھیجیں گی	وہ (دو عورتیں)	تَبَعَثَانِ	هُمَا
وہ سب عورتیں بھیجتی ہیں / بھیجیں گی	وہ (سب عورتیں)	يَبْعَثُنَّ	هُنَّ
تم ایک مرد بھیجتے ہو / بھیجوں گے	تم (ایک مرد)	تَبَعَثُ	أَنْتَ
تم دونوں بھیجتے ہو / بھیجوں گے	تم (دو مرد / عورتیں)	تَبَعَثَانِ	أَنْتُمَا
تم سب مرد بھیجتے ہو / بھیجوں گے	تم (سب مرد)	تَبْعَثُونَ	أَنْتُمْ
تم ایک عورت بھیجتی ہو / بھیجوں گی	تم (ایک عورت)	تَبْعَثِينَ	أَنْتِ
تم دونوں عورتیں بھیجتی ہو / بھیجوں گی	تم (دو عورتیں)	تَبْعَثَانِ	أَنْتُمَا
تم سب عورتیں بھیجتی ہو / بھیجوں گی	تم (سب عورتیں)	تَبْعَثُنَّ	أَنْتُنَّ
میں بھیجتا / بھیجتی ہوں / بھیجوں گا / گی	میں	أَبْعَثُ	أَنَا
ہم بھیجتے ہیں / بھیجیں گے	ہم	نَبْعَثُ	نَحْنُ

IMPERATIVE		الأمر والنهي	
POSITIVE	الأمر	NEGATIVE	النهي
الضمیر	الفعل	الضمیر	الفعل
أَنْتَ	أَبْعَثُ	أَنْتَ	لَا تَبْعَثُ
أَنْتُمَا	أَبْعَثَا	أَنْتُمَا	لَا تَبْعَثَا
أَنْتُمْ	أَبْعَثُوا	أَنْتُمْ	لَا تَبْعَثُوا
أَنْتِ	أَبْعَثِي	أَنْتِ	لَا تَبْعَثِي
أَنْتُمَا	أَبْعَثَا	أَنْتُمَا	لَا تَبْعَثَا
أَنْتُنَّ	أَبْعَثْنَ	أَنْتُنَّ	لَا تَبْعَثْنَ

## الجدول الإسنادي — الماضي

## RELATIONAL MAPPING — PAST

هو		وه (ایک مرد)
نِي	بَعَثَنِي	اس نے مجھے بھیجا
نَا	بَعَثَنَا	اس نے ہمیں بھیجا
كَ	بَعَثَكَ	اس نے تمہیں (ایک مرد) بھیجا
كُمَا	بَعَثَكُمَا	اس نے تم دونوں کو بھیجا
كُم	بَعَثَكُمْ	اس نے تم سب (مردوں) کو بھیجا
كَ	بَعَثَكَ	اس نے تمہیں (ایک عورت) بھیجا
كُنَّ	بَعَثَكُنَّ	اس نے تم سب (عورتوں) کو بھیجا
هُ	بَعَثَهُ	اس نے اسے (ایک مرد) بھیجا
هُمَا	بَعَثَهُمَا	اس نے ان دونوں کو بھیجا
هُمْ	بَعَثَهُمْ	اس نے ان سب (مردوں) کو بھیجا
هَا	بَعَثَهَا	اس نے اسے (ایک عورت) بھیجا
هُمَا	بَعَثَهُمَا	اس نے ان دونوں عورتوں کو بھیجا
هِنَّ	بَعَثَهُنَّ	اس نے ان سب (عورتوں) کو بھیجا

هِيَ (مذكر)		وه (دو مرد)
نِي	بَعَثَانِي	ان دو مردوں نے مجھے بھیجا
نَا	بَعَثَانَا	ان دو مردوں نے ہمیں بھیجا
كَ	بَعَثَاكَ	ان دو مردوں نے تمہیں (ایک مرد) بھیجا
كُمَا	بَعَثَاكُمَا	ان دو مردوں نے تم دونوں کو بھیجا
كُم	بَعَثَاكُمْ	ان دو مردوں نے تم سب (مردوں) کو بھیجا
كَ	بَعَثَاكَ	ان دو مردوں نے تمہیں (ایک عورت) بھیجا
كُنَّ	بَعَثَاكُنَّ	ان دو مردوں نے تم سب (عورتوں) کو بھیجا
هُ	بَعَثَاهُ	ان دو مردوں نے اسے (ایک مرد) بھیجا
هُمَا	بَعَثَاهُمَا	ان دو مردوں نے ان دونوں کو بھیجا
هُمْ	بَعَثَاهُمْ	ان دو مردوں نے ان سب (مردوں) کو بھیجا
هَا	بَعَثَاهَا	ان دو مردوں نے اسے (ایک عورت) بھیجا
هِنَّ	بَعَثَاهُنَّ	ان دو مردوں نے ان سب (عورتوں) کو بھیجا

م	وہ (سب مرد)
نِی	ان سب مردوں نے مجھے بھیجا
نَا	ان سب مردوں نے ہمیں بھیجا
كَ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک مرد) بھیجا
كَا	ان سب مردوں نے تم دونوں کو بھیجا
كُم	ان سب مردوں نے تم سب (مردوں) کو بھیجا
كَ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک عورت) بھیجا
كَنَّ	ان سب مردوں نے تم سب (عورتوں) کو بھیجا
ه	ان سب مردوں نے اسے (ایک مرد) بھیجا
هَمَا	ان سب مردوں نے ان دونوں کو بھیجا
هَم	ان سب مردوں نے ان سب (مردوں) کو بھیجا
هَا	ان سب مردوں نے اسے (ایک عورت) بھیجا
هَنَّ	ان سب مردوں نے ان سب (عورتوں) کو بھیجا

ہی	وہ (ایک عورت)
نِی	اس ایک عورت نے مجھے بھیجا
نَا	اس ایک عورت نے ہمیں بھیجا
كَ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک مرد) بھیجا
كَا	اس ایک عورت نے تم دونوں کو بھیجا
كُم	اس ایک عورت نے تم سب (مردوں) کو بھیجا
كَ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک عورت) بھیجا
كَنَّ	اس ایک عورت نے تم سب (عورتوں) کو بھیجا
ه	اس ایک عورت نے اسے (ایک مرد) بھیجا
هَمَا	اس ایک عورت نے ان دونوں کو بھیجا
هَم	اس ایک عورت نے ان سب (مردوں) کو بھیجا
هَا	اس ایک عورت نے اسے (ایک عورت) بھیجا
هَنَّ	اس ایک عورت نے ان سب (عورتوں) کو بھیجا

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	بَعَثَانِی	ان دو عورتوں نے مجھے بھیجا
نَا	بَعَثَانَا	ان دو عورتوں نے ہمیں بھیجا
ک	بَعَثَاکَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) بھیجا
کَا	بَعَثَاکُمَا	ان دو عورتوں نے تم دونوں کو بھیجا
کُم	بَعَثَاکُمْ	ان دو عورتوں نے تم سب (مردوں) کو بھیجا
ک	بَعَثَاکَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) بھیجا
کَنَّ	بَعَثَاکُنَّ	ان دو عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو بھیجا
ہ	بَعَثَاهُ	ان دو عورتوں نے اسے (ایک مرد) بھیجا
ہمَا	بَعَثَاهُمَا	ان دو عورتوں نے ان دونوں کو بھیجا
ہم	بَعَثَاهُمْ	ان دو عورتوں نے ان سب (مردوں) کو بھیجا
ہَا	بَعَثَاهَا	ان دو عورتوں نے اسے (ایک عورت) بھیجا
ہنَّ	بَعَثَاهُنَّ	ان دو عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو بھیجا

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	بَعَثْنِی	ان سب عورتوں نے مجھے بھیجا
نَا	بَعَثْنَا	ان سب عورتوں نے ہمیں بھیجا
ک	بَعَثْنَاکَ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) بھیجا
کَا	بَعَثْنَاکُمَا	ان سب عورتوں نے تم دونوں کو بھیجا
کُم	بَعَثْنَاکُمْ	ان سب عورتوں نے تم سب (مردوں) کو بھیجا
ک	بَعَثْنَاکَ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) بھیجا
کَنَّ	بَعَثْنَاکُنَّ	ان سب عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو بھیجا
ہ	بَعَثْنَاهُ	ان سب عورتوں نے اسے (ایک مرد) بھیجا
ہمَا	بَعَثْنَاهُمَا	ان سب عورتوں نے ان دونوں کو بھیجا
ہم	بَعَثْنَاهُمْ	ان سب عورتوں نے ان سب (مردوں) کو بھیجا
ہَا	بَعَثْنَاهَا	ان سب عورتوں نے اسے (ایک عورت) بھیجا
ہنَّ	بَعَثْنَاهُنَّ	ان سب عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو بھیجا

تم (ایک مرد)	أَنْتَ	تم دونوں (مرد/عورت)	أَنْتُمَا
تم (ایک مرد) نے مجھے بھیجا	بَعَثَنِي	تم دونوں نے مجھے بھیجا	بَعَثَانِي
تم (ایک مرد) نے ہمیں بھیجا	بَعَثَنَا	تم دونوں نے ہمیں بھیجا	بَعَثَانَا
تم (ایک مرد) نے اسے (ایک مرد) بھیجا	بَعَثَهُ	تم دونوں نے اسے (ایک مرد) بھیجا	بَعَثَاهُ
تم (ایک مرد) نے ان دونوں کو بھیجا	بَعَثَهُمَا	تم دونوں نے ان دونوں کو بھیجا	بَعَثَهُمَا
تم (ایک مرد) نے ان سب (مردوں) کو بھیجا	بَعَثَهُمْ	تم دونوں نے ان سب (مردوں) کو بھیجا	بَعَثَهُمْ
تم (ایک مرد) نے اسے (ایک عورت) بھیجا	بَعَثَهَا	تم دونوں نے اسے (ایک عورت) بھیجا	بَعَثَهَا
تم (ایک مرد) نے ان سب (عورتوں) کو بھیجا	بَعَثَهُنَّ	تم دونوں نے ان سب (عورتوں) کو بھیجا	بَعَثَهُنَّ

تم سب (مرد)	أَنْتُمْ	تم (ایک عورت)	أَنْتِ
تم سب (مردوں) نے مجھے بھیجا	بَعَثْتُمُونِي	تم (ایک عورت) نے مجھے بھیجا	بَعَثْتِنِي
تم سب (مردوں) نے ہمیں بھیجا	بَعَثْتُمُونَا	تم (ایک عورت) نے ہمیں بھیجا	بَعَثْتِنَا
تم سب (مردوں) نے اسے (ایک مرد) بھیجا	بَعَثْتُمُوهُ	تم (ایک عورت) نے اسے (ایک مرد) بھیجا	بَعَثْتِيهِ
تم سب (مردوں) نے ان دونوں کو بھیجا	بَعَثْتُمُوهُمَا	تم (ایک عورت) نے ان دونوں کو بھیجا	بَعَثْتِيَهُمَا
تم سب (مردوں) نے ان سب (مردوں) کو بھیجا	بَعَثْتُمُوهُمْ	تم (ایک عورت) نے ان سب (مردوں) کو بھیجا	بَعَثْتِيَهُمْ
تم سب (مردوں) نے اسے (ایک عورت) بھیجا	بَعَثْتُمُوهَا	تم (ایک عورت) نے اسے (ایک عورت) بھیجا	بَعَثْتِيَهَا
تم سب (مردوں) نے ان سب (عورتوں) کو بھیجا	بَعَثْتُمُوهُنَّ	تم (ایک عورت) نے ان سب (عورتوں) کو بھیجا	بَعَثْتِيَهُنَّ

تم سب (عورتیں)	أَنْتُنَّ	میں	أَنَا
تم سب (عورتوں) نے مجھے بھیجا	بَعَثْتُنَّنِي	میں نے تمہیں (ایک مرد) بھیجا	بَعَثْتُكَ
تم سب (عورتوں) نے ہمیں بھیجا	بَعَثْتُنَّنَا	میں نے تم دونوں کو بھیجا	بَعَثْتُكُمَا
تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک مرد) بھیجا	بَعَثْتُنَّهُ	میں نے تم سب (مردوں) کو بھیجا	بَعَثْتُكُمْ
تم سب (عورتوں) نے ان دونوں کو بھیجا	بَعَثْتُنَّهُمَا	میں نے تمہیں (ایک عورت) بھیجا	بَعَثْتُكَ
تم سب (عورتوں) نے ان سب (مردوں) کو بھیجا	بَعَثْتُنَّهُمْ	میں نے تم سب (عورتوں) کو بھیجا	بَعَثْتُكُنَّ
تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک عورت) بھیجا	بَعَثْتُنَّهَا	میں نے اسے (ایک مرد) بھیجا	بَعَثْتِيهِ
تم سب (عورتوں) نے ان سب (عورتوں) کو بھیجا	بَعَثْتُنَّهُنَّ	میں نے ان دونوں کو بھیجا	بَعَثْتُهُمَا
		میں نے ان سب (مردوں) کو بھیجا	بَعَثْتُهُمْ
		میں نے اسے (ایک عورت) بھیجا	بَعَثْتِيَهَا
		میں نے ان سب (عورتوں) کو بھیجا	بَعَثْتِيَهُنَّ

نَحْنُ	ہم	
كَ	بَعَثَاكَ	ہم نے تمہیں (ایک مرد) بھیجا
كُمَا	بَعَثَاكُمَا	ہم نے تم دونوں کو بھیجا
كُمُ	بَعَثَاكُمُ	ہم نے تم سب (مردوں) کو بھیجا
كَ	بَعَثَاكِ	ہم نے تمہیں (ایک عورت) بھیجا
كُنَّ	بَعَثَاكُنَّ	ہم نے تم سب (عورتوں) کو بھیجا
هُ	بَعَثَاهُ	ہم نے اسے (ایک مرد) بھیجا
هُمَا	بَعَثَاهُمَا	ہم نے ان دونوں کو بھیجا
هُمْ	بَعَثَاهُمْ	ہم نے ان سب (مردوں) کو بھیجا
هَا	بَعَثَاهَا	ہم نے اسے (ایک عورت) بھیجا
هِنَّ	بَعَثَاهِنَّ	ہم نے ان سب (عورتوں) کو بھیجا

## الجدول الإسنادي — المضارع

## RELATIONAL MAPPING — PRESENT

هو		وه (ایک مرد)
نَا	يَبْعَثُنِي	وہ مجھے بھیجتا ہے / بھیجے گا
نَا	يَبْعَثُنَا	وہ ہمیں بھیجتا ہے / بھیجے گا
كَ	يَبْعَثُكَ	وہ تمہیں (ایک مرد) بھیجتا ہے / بھیجے گا
كُمَا	يَبْعَثُكُمَا	وہ تم دونوں کو بھیجتا ہے / بھیجے گا
كُم	يَبْعَثُكُمْ	وہ تم سب (مردوں) کو بھیجتا ہے / بھیجے گا
كَ	يَبْعَثُكَ	وہ تمہیں (ایک عورت) بھیجتا ہے / بھیجے گا
كُنَّ	يَبْعَثُكُنَّ	وہ تم سب (عورتوں) کو بھیجتا ہے / بھیجے گا
ه	يَبْعَثُهُ	وہ اسے (ایک مرد) بھیجتا ہے / بھیجے گا
هُمَا	يَبْعَثُهُمَا	وہ ان دونوں کو بھیجتا ہے / بھیجے گا
هُمْ	يَبْعَثُهُمْ	وہ ان سب (مردوں) کو بھیجتا ہے / بھیجے گا
هَا	يَبْعَثُهَا	وہ اسے (ایک عورت) بھیجتا ہے / بھیجے گا
هُمَا	يَبْعَثُهُمَا	وہ ان دونوں عورتوں کو بھیجتا ہے / بھیجے گا
هِنَّ	يَبْعَثُهُنَّ	وہ ان سب (عورتوں) کو بھیجتا ہے / بھیجے گا

هِيَ (مذكر)		وه (دو مرد)
نِي	يَبْعَثَانِي	وہ دو مرد مجھے بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
نَا	يَبْعَثَانَا	وہ دو مرد ہمیں بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
كَ	يَبْعَثَانِكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک مرد) بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
كُمَا	يَبْعَثَانُكُمَا	وہ دو مرد تم دونوں کو بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
كُم	يَبْعَثَانَكُمْ	وہ دو مرد تم سب (مردوں) کو بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
كَ	يَبْعَثَانِكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک عورت) بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
كُنَّ	يَبْعَثَانَكُنَّ	وہ دو مرد تم سب (عورتوں) کو بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
ه	يَبْعَثَانُهُ	وہ دو مرد اسے (ایک مرد) بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
هُمَا	يَبْعَثَانُهُمَا	وہ دو مرد ان دونوں کو بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
هُمْ	يَبْعَثَانُهُمْ	وہ دو مرد ان سب (مردوں) کو بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
هَا	يَبْعَثَانُهَا	وہ دو مرد اسے (ایک عورت) بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
هِنَّ	يَبْعَثَانُهُنَّ	وہ دو مرد ان سب (عورتوں) کو بھیجتے ہیں / بھیجیں گے

ہم		وہ (سب مرد)
نَا	يَبْعُوْنِي	وہ سب مرد مجھے بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
نَا	يَبْعُوْنَا	وہ سب مرد ہمیں بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
كَ	يَبْعُوْكَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک مرد) بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
كُمَا	يَبْعُوْكُمَا	وہ سب مرد تم دونوں کو بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
كُم	يَبْعُوْكُمْ	وہ سب مرد تم سب (مردوں) کو بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
كَ	يَبْعُوْكَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک عورت) بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
كُنَّ	يَبْعُوْكُنَّ	وہ سب مرد تم سب (عورتوں) کو بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
ه	يَبْعُوْه	وہ سب مرد اسے (ایک مرد) بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
هُمَا	يَبْعُوْهُمَا	وہ سب مرد ان دونوں کو بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
هُمْ	يَبْعُوْهُمْ	وہ سب مرد ان سب (مردوں) کو بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
هَا	يَبْعُوْهَا	وہ سب مرد اسے (ایک عورت) بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
هِنَّ	يَبْعُوْهُنَّ	وہ سب مرد ان سب (عورتوں) کو بھیجتے ہیں / بھیجیں گے

ہی		وہ (ایک عورت)
نَا	تَبْعُوْنِي	وہ ایک عورت مجھے بھیجتی ہے / بھیجے گی
نَا	تَبْعُوْنَا	وہ ایک عورت ہمیں بھیجتی ہے / بھیجے گی
كَ	تَبْعُوْكَ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک مرد) بھیجتی ہے / بھیجے گی
كُمَا	تَبْعُوْكُمَا	وہ ایک عورت تم دونوں کو بھیجتی ہے / بھیجے گی
كُم	تَبْعُوْكُمْ	وہ ایک عورت تم سب (مردوں) کو بھیجتی ہے / بھیجے گی
كَ	تَبْعُوْكَ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک عورت) بھیجتی ہے / بھیجے گی
كُنَّ	تَبْعُوْكُنَّ	وہ ایک عورت تم سب (عورتوں) کو بھیجتی ہے / بھیجے گی
ه	تَبْعُوْه	وہ ایک عورت اسے (ایک مرد) بھیجتی ہے / بھیجے گی
هُمَا	تَبْعُوْهُمَا	وہ ایک عورت ان دونوں کو بھیجتی ہے / بھیجے گی
هُمْ	تَبْعُوْهُمْ	وہ ایک عورت ان سب (مردوں) کو بھیجتی ہے / بھیجے گی
هَا	تَبْعُوْهَا	وہ ایک عورت اسے (ایک عورت) بھیجتی ہے / بھیجے گی
هِنَّ	تَبْعُوْهُنَّ	وہ ایک عورت ان سب (عورتوں) کو بھیجتی ہے / بھیجے گی

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	تَبَعَّثَانِی	وہ دو عورتیں مجھے بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
نَا	تَبَعَّثَانَا	وہ دو عورتیں ہمیں بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
ک	تَبَعَّثَاکَ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک مرد) بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
کَا	تَبَعَّثَاکُمَا	وہ دو عورتیں تم دونوں کو بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
کُم	تَبَعَّثَاکُمْ	وہ دو عورتیں تم سب (مردوں) کو بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
ک	تَبَعَّثَاکَ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک عورت) بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
کَنَّ	تَبَعَّثَاکُنَّ	وہ دو عورتیں تم سب (عورتوں) کو بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
ہ	تَبَعَّثَاهُ	وہ دو عورتیں اسے (ایک مرد) بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
ہَمَا	تَبَعَّثَاهُمَا	وہ دو عورتیں ان دونوں کو بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
ہُم	تَبَعَّثَاهُمْ	وہ دو عورتیں ان سب (مردوں) کو بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
ہَا	تَبَعَّثَاهَا	وہ دو عورتیں اسے (ایک عورت) بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
ہَنَّ	تَبَعَّثَاهُنَّ	وہ دو عورتیں ان سب (عورتوں) کو بھیجتی ہیں / بھیجیں گی

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	یَبَعَّثَانِی	وہ سب عورتیں مجھے بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
نَا	یَبَعَّثَانَا	وہ سب عورتیں ہمیں بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
ک	یَبَعَّثَاکَ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک مرد) بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
کَا	یَبَعَّثَاکُمَا	وہ سب عورتیں تم دونوں کو بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
کُم	یَبَعَّثَاکُمْ	وہ سب عورتیں تم سب (مردوں) کو بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
ک	یَبَعَّثَاکَ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک عورت) بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
کَنَّ	یَبَعَّثَاکُنَّ	وہ سب عورتیں تم سب (عورتوں) کو بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
ہ	یَبَعَّثَاهُ	وہ سب عورتیں اسے (ایک مرد) بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
ہَمَا	یَبَعَّثَاهُمَا	وہ سب عورتیں ان دونوں کو بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
ہُم	یَبَعَّثَاهُمْ	وہ سب عورتیں ان سب (مردوں) کو بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
ہَا	یَبَعَّثَاهَا	وہ سب عورتیں اسے (ایک عورت) بھیجتی ہیں / بھیجیں گی
ہَنَّ	یَبَعَّثَاهُنَّ	وہ سب عورتیں ان سب (عورتوں) کو بھیجتی ہیں / بھیجیں گی

أَنْتَ	تَمَّ (ایک مرد)
نِي	تَمَّ (ایک مرد) مجھے بھیجتے ہو / بھیجے گے
نَا	تَمَّ (ایک مرد) ہمیں بھیجتے ہو / بھیجے گے
هُ	تَمَّ (ایک مرد) اسے (ایک مرد) بھیجتے ہو / بھیجے گے
هُمَا	تَمَّ (ایک مرد) ان دونوں کو بھیجتے ہو / بھیجے گے
هُمْ	تَمَّ (ایک مرد) ان سب (مردوں) کو بھیجتے ہو / بھیجے گے
هَا	تَمَّ (ایک مرد) اسے (ایک عورت) بھیجتے ہو / بھیجے گے
هِنَّ	تَمَّ (ایک مرد) ان سب (عورتوں) کو بھیجتے ہو / بھیجے گے

أَنْتِ	تَمَّ (مرد/عورت)
نِي	تَمَّ (مرد) مجھے بھیجتے ہو / بھیجے گے
نَا	تَمَّ (مرد) ہمیں بھیجتے ہو / بھیجے گے
هُ	تَمَّ (مرد) اسے (ایک مرد) بھیجتے ہو / بھیجے گے
هُمَا	تَمَّ (مرد) ان دونوں کو بھیجتے ہو / بھیجے گے
هُمْ	تَمَّ (مرد) ان سب (مردوں) کو بھیجتے ہو / بھیجے گے
هَا	تَمَّ (مرد) اسے (ایک عورت) بھیجتے ہو / بھیجے گے
هِنَّ	تَمَّ (مرد) ان سب (عورتوں) کو بھیجتے ہو / بھیجے گے

أَنْتُمْ	تَمَّ سب (مرد)
نِي	تَمَّ سب (مرد) مجھے بھیجتے ہو / بھیجے گے
نَا	تَمَّ سب (مرد) ہمیں بھیجتے ہو / بھیجے گے
هُ	تَمَّ سب (مرد) اسے (ایک مرد) بھیجتے ہو / بھیجے گے
هُمَا	تَمَّ سب (مرد) ان دونوں کو بھیجتے ہو / بھیجے گے
هُمْ	تَمَّ سب (مرد) ان سب (مردوں) کو بھیجتے ہو / بھیجے گے
هَا	تَمَّ سب (مرد) اسے (ایک عورت) بھیجتے ہو / بھیجے گے
هِنَّ	تَمَّ سب (مرد) ان سب (عورتوں) کو بھیجتے ہو / بھیجے گے

أَنْتِ	تَمَّ (ایک عورت)
نِي	تَمَّ (ایک عورت) مجھے بھیجتے ہو / بھیجے گی
نَا	تَمَّ (ایک عورت) ہمیں بھیجتے ہو / بھیجے گی
هُ	تَمَّ (ایک عورت) اسے (ایک مرد) بھیجتے ہو / بھیجے گی
هُمَا	تَمَّ (ایک عورت) ان دونوں کو بھیجتے ہو / بھیجے گی
هُمْ	تَمَّ (ایک عورت) ان سب (مردوں) کو بھیجتے ہو / بھیجے گی
هَا	تَمَّ (ایک عورت) اسے (ایک عورت) بھیجتے ہو / بھیجے گی
هِنَّ	تَمَّ (ایک عورت) ان سب (عورتوں) کو بھیجتے ہو / بھیجے گی

انتم	تم سب (عورتیں)	اننا	میں
نِي	تبعثني تم سب (عورتیں) مجھے بھیجتی ہو / بھیجوگی	كَ	میں تمہیں (ایک مرد) بھیجتا / بھیجتی ہوں / بھیجوں گا/گی
نَا	تبعثنا تم سب (عورتیں) ہمیں بھیجتی ہو / بھیجوگی	كَا	میں تم دونوں کو بھیجتا / بھیجتی ہوں / بھیجوں گا/گی
ه	تبعثه تم سب (عورتیں) اسے (ایک مرد) بھیجتی ہو / بھیجوگی	كُم	میں تم سب (مردوں) کو بھیجتا / بھیجتی ہوں / بھیجوں گا/گی
هَمَا	تبعثهما تم سب (عورتیں) ان دونوں کو بھیجتی ہو / بھیجوگی	كِ	میں تمہیں (ایک عورت) بھیجتا / بھیجتی ہوں / بھیجوں گا/گی
هَمْ	تبعثهم تم سب (عورتیں) ان سب (مردوں) کو بھیجتی ہو / بھیجوگی	كُنَّ	میں تم سب (عورتوں) کو بھیجتا / بھیجتی ہوں / بھیجوں گا/گی
هَا	تبعثها تم سب (عورتیں) اسے (ایک عورت) بھیجتی ہو / بھیجوگی	ه	میں اسے (ایک مرد) بھیجتا / بھیجتی ہوں / بھیجوں گا/گی
هِنَّ	تبعثهن تم سب (عورتیں) ان سب (عورتوں) کو بھیجتی ہو / بھیجوگی	هَمَا	میں ان دونوں کو بھیجتا / بھیجتی ہوں / بھیجوں گا/گی
		هَمْ	میں ان سب (مردوں) کو بھیجتا / بھیجتی ہوں / بھیجوں گا/گی
		هَا	میں اسے (ایک عورت) بھیجتا / بھیجتی ہوں / بھیجوں گا/گی
		هِنَّ	میں ان سب (عورتوں) کو بھیجتا / بھیجتی ہوں / بھیجوں گا/گی

نَحْنُ	ہم
كَ	نَبَعَثَكَ (ایک مرد) بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
كُمَا	نَبَعَثَكُمَا (دووں کو) بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
كُمُ	نَبَعَثَكُمُ (سب مردوں) کو بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
كِ	نَبَعَثُكِ (ایک عورت) بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
كُنَّ	نَبَعَثَنَّ (سب عورتوں) کو بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
هُ	نَبَعَثَهُ (ایک مرد) بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
هُمَا	نَبَعَثَهُمَا (دووں کو) بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
هُمْ	نَبَعَثَهُمْ (سب مردوں) کو بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
هَا	نَبَعَثَهَا (ایک عورت) بھیجتے ہیں / بھیجیں گے
هِنَّ	نَبَعَثْنَهُنَّ (سب عورتوں) کو بھیجتے ہیں / بھیجیں گے

## USAGE EXAMPLES — PAST

## مثالیں — ماضی

I

أَنَا بَعَثْتُ رِسَالَةَ شُكْرٍ إِلَى أَسْتَاذِي الَّذِي عَلَّمَنِي.  
میں نے اپنے استاد کو جس نے مجھے پڑھایا شکریہ کا خط بھیجا۔

I sent a letter of thanks to my teacher who taught me.

We

نَحْنُ بَعَثْنَا فَرِيقَ إِغَاثَةٍ إِلَى الْمَنَاطِقِ الْمُنْكَوبَةِ.  
ہم نے متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیم بھیجی۔

We sent a relief team to the disaster-stricken areas.

You (m)

أَنْتَ بَعَثْتَ ابْنَكَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ.  
تم نے اپنے بیٹے کو قرآن کریم سیکھنے کے لیے مسجد بھیجا۔

You sent your son to the mosque to learn the Noble Quran.

You (f)

أَنْتِ بَعَثْتِ هَدِيَّةً لِجَارَتِكَ لِتُدْخِلِي السُّرُورَ عَلَى قَلْبِهَا.  
تم نے اپنی پڑوسن کو تحفہ بھیجا تاکہ اس کا دل خوش ہو۔

You (f) sent a gift to your neighbor to bring joy to her heart.

He

هُوَ بَعَثَ اللَّهَ الرَّسُلَ وَالْأَنْبِيَاءَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ.  
اللہ نے رسولوں اور انبیاء کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔

Allah sent the messengers and prophets with guidance and the religion of truth.

She

هِيَ بَعَثَتِ الْمُعَلِّمَةَ طُلَّابَهَا إِلَى مَكْتَبَةِ الْمَدْرَسَةِ لِلْبَحْثِ.  
استانی نے اپنے طلباء کو تحقیق کے لیے اسکول لائبریری بھیجا۔

The teacher sent her students to the school library for research.

They two

هُمَا بَعَثَا مُمَثِّلًا عَنْهُمَا لِحُضُورِ الْجُمُعَةِ الْمُهِيْمَةِ.  
ان دونوں نے اہم میٹنگ میں شرکت کے لیے اپنی طرف سے نمائندہ بھیجا۔

They two sent a representative on their behalf to attend the important meeting.

They (m)

هُمْ بَعَثُوا مَبْعُوثِينَ إِلَى الدَّوْلَةِ الْجَارِيَةِ لِلتَّفَاوُضِ.  
انہوں نے پڑوسی ملک میں مذاکرات کے لیے الپچی بھیجے۔

They sent envoys to the neighboring country for negotiations.

You all (m)

أَنْتُمْ بَعَثْتُمْ الطُّلَّابَ إِلَى مَرَاكِزِ التَّدْرِيبِ لِاِكْتِسَابِ الْمَهَارَاتِ.  
تم سب نے طلباء کو مہارتیں حاصل کرنے کے لیے تربیتی مراکز بھیجا۔

You all sent students to training centers to acquire skills.

They (f)

هُنَّ بَعَثْنَ رَسَائِلَ الدُّعَاءِ وَالتَّشْجِيعِ إِلَى ذَوِيهِنَّ.  
انہوں نے اپنے پیاروں کو دعا اور حوصلہ افزائی کے پیغامات بھیجے۔

They (f) sent messages of prayer and encouragement to their loved ones.

## USAGE EXAMPLES — PRESENT

## مثالیں — مضارع

I

أَنَا أَبْعَثُ رِسَالَةً إِلَى أَهْلِي كُلِّ أُسْبُوعٍ لِأُطْمَئِنَّ عَلَيْهِمْ.  
میں ہر ہفتے اپنے خاندان کو خیریت جاننے کے لیے پیغام بھیجتا ہوں۔

I send a message to my family every week to check on them.

We

نَحْنُ نَبْعَثُ الْمُعَلِّمِينَ إِلَى الْقُرَى النَّاثِيَةِ لِتَنْشِيرِ الْعِلْمِ.  
ہم دور دراز گاؤں میں علم پھیلانے کے لیے اساتذہ بھیجتے ہیں۔

We send teachers to remote villages to spread knowledge.

You (m)

أَنْتَ تَبْعَثُ الطَّمَأِينَةَ فِي قُلُوبِ مَنْ حَوْلَكَ بِكَلَامِكَ الطَّيِّبِ.  
تم اپنی اچھی بات سے اپنے آس پاس لوگوں کے دلوں میں اطمینان بھیجتے ہو۔

You send tranquility into the hearts of those around you with your kind words.

You (f)

أَنْتِ تَبْعَثِينَ أَبْنَاءَكَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ كُلَّ صَبَاحٍ بِدُعَاءٍ.  
تم اپنے بچوں کو ہر صبح دعا کے ساتھ اسکول بھیجتی ہو۔

You (f) send your children to school every morning with a prayer.

He

هُوَ يَبْعَثُ اللَّهُ الْخَلْقَ جَمِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْحِسَابِ.  
الذی قیامت کے دن تمام مخلوق کو حساب کے لیے اٹھائے گا۔

Allah will resurrect all of creation on the Day of Judgment for reckoning.

She

هِيَ تَبْعَثُ رَسَائِلَ التَّهْنِئَةِ إِلَى أَصْدِقَائِهَا فِي مَنَاسِبَاتِهِمْ.  
وہ اپنے دوستوں کو ان کے مناسبت پر مبارک باد کے پیغامات بھیجتی ہے۔

She sends congratulatory messages to her friends on their occasions.

They two

هُمَا يَبْعَثَانِ هَدَايَا إِلَى أَهْلِيهِمَا فِي كُلِّ عِيدٍ.  
وہ دونوں ہر عید میں اپنے گھر والوں کو تحفے بھیجتے ہیں۔

They two send gifts to their families on every Eid.

They (m)

هُمْ يَبْعَثُونَ طَلَبَ الْإِسْتِعَاثَةِ إِلَى الْجِهَاتِ الْمَسْئُولَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.  
وہ ضرورت کے وقت ذمہ دار اداروں کو فریاد کلبھیجتے ہیں۔

They send a distress call to the responsible authorities when needed.

You all (m)

أَنْتُمْ تَبْعَثُونَ نَوَابِئَكُمْ إِلَى الْمُؤْتَمَرَاتِ الدَّوْلِيَّةِ.  
تم اپنے نمائندے بین الاقوامی کانفرنسوں میں بھیجتے ہو۔

You all send your representatives to international conferences.

They (f)

هُنَّ يَبْعَثْنَ دُعَوَاتٍ إِلَى الْجِيرَانِ لِحُضُورِ مَجَالِسِ الْعِلْمِ.  
وہ پڑوسیوں کو علمی مجالس میں شرکت کے لیے دعوت نامے بھیجتی ہیں۔

They (f) send invitations to neighbors to attend Islamic study circles.

## VOCABULARY

## المفردات

الرِّسَالَةُ

رسالة / بپیغام / خط

message / letter / mission

الرَّسُولُ

رسول / قاصد

messenger / prophet

الْبَعْثُ

بھیجنا / اٹھانا / قیامت

sending / resurrection

المَبْعُوثُ

مبعوث / بھیجا گیا

one who is sent / resurrected

يَوْمُ الْبَعْثِ

بعث کا دن

Day of Resurrection

الْبِعْثَةُ

مشن / وفد

mission / delegation

المَبْعُوثُ

المبھیجی / سفیر

envoy / delegate

الطَّرْدُ

پارسل / بیکیٹ

package / parcel

الْإِغَاثَةُ

امداد / فریاد رسی

relief / aid

الْإِجْتِمَاعُ

اجلاس / میٹنگ

meeting / gathering

التَّفَاوُضُ

مذاکرات

negotiation

المَوْثَرُ

کانفرنس

conference

الْقِيَامَةُ

قیامت

resurrection / Day of Judgment

الحِسَابُ

حساب

reckoning / accountability

السَّفِيرُ

سفیر / نمائندہ

ambassador / representative